



Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) حضرت شاہ عبد القادر اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة یس بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یس

.1

یا سین

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

.2

قسم ہے اس کے قرآن (حکیم) کی۔

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

.3

تو تحقیق (یقیناً) ہے بھیجے ہوؤں (رسولوں) میں سے۔

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

.4

اوپر سیدھی راہ کے۔

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

.5

(یہ قرآن) اتارا از بردست رحم والے کا۔

لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ

کہ تو ڈرائے (متنبہ کرے) ایک لوگوں کو، کہ ڈر نہیں سنائے ان کے باپ دادوں نے،

فَهُمْ غَافِلُونَ

سو وہ خبر نہیں رکھتے۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

ثابت (پوری) ہو چکی ہے بات ان بہتوں پر، سو وہ نہ مانیں (ایمان نہ لائیں) گے۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ

ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، سو وہ ہیں (جکڑے) ٹھوڑیوں تک،

پھر ان کے سر اُلل (اکڑ) رہے ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

اور بنائی (کھڑی کردی) ہم نے ان کے آگے دیوار، اور ان کے پیچھے دیوار،

فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو نہیں سو جھتا۔

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

اور برابر ہے ٹونے ان کو ڈرایا یا نہ ڈرایا یقین نہیں کرتے۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ^ط

تو تو ڈر سنائے اُس کو جو چلے سمجھانے پر، اور ڈرے رحمن سے بن دیکھے۔

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

سو اس کو دے خوشخبری معافی کی، اور عزت کے نیک (اجر کریم) کی۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ^ج

ہم ہیں جو جلاتے (زندہ کرتے) ہیں مُردے، اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے، اور ان کے پیچھے نشان رہے۔

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل (کتاب) میں۔

وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

اور بیان کرو ان کے واسطے ایک کہاوت لوگ اس گاؤں کے، جب آئے اس میں بھیجے ہوئے (پیغمبر)۔

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ

جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو (پیغمبر)، تو ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے زور دیا (تقویت دی) تیسرے سے،

فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ

تب کہا، ہم تمہاری طرف آئے ہیں بھیجے۔

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ

وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم، اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا،

إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ

تم سارا جھوٹ کہتے ہو۔

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ

(انہوں نے) کہا، ہمارا رب جانتا ہے ہم بیشک تمہاری طرف بھیجے (رسول بن کر) آئے ہیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

اور ہمارا ذمہ یہی ہے پہنچا دینا کھول کر (صاف صاف)۔

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ^ط

بولے ہم نے نامبارک دیکھا تم کو۔

لَعْنٌ لِمَ تَنْتَهُوا النَّرَّ جُمْتُمْ لَكُمْ وَلِيَمَسَّكُمْ مِّنْ آعْذَابِ أَلِيمٍ

اگر تم نہ چھوڑو (باز آؤ) گے تو ہم تم کو سگسار کریں گے اور تم کو لگے گی ہمارے ہاتھ سے دکھ کی مار۔

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكُمْ^ج

کہنے لگے تمہاری نامبارکی (نخوست) تمہارے ساتھ ہے۔

أَلَيْسَ ذِكْرُكُمْ^ج

کیا اس سے کہ تم کو سمجھایا؟

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

کوئی نہیں! پر تم لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے۔

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى

.20

اور آیا شہر کے پرلے سرے (دور دراز گوشے) سے ایک مرد دوڑتا۔

قَالَ يَا قَوْمِ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

بولو، اے قوم! چلو راہ پر (پیروی اختیار کرو) اُن بھیجے ہوؤں کے (رسولوں کی)۔

أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ

.21

چلو راہ پر ایسوں کی جو تم سے نیک (اجر) نہیں مانگتے، اور راہ سبھی (ٹھیک راستے پر) ہیں۔

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

.22

اور مجھ کو کیا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اسکی جس نے مجھ کو بنایا، اور اسی کی طرف پھر (لوٹائے) جاؤ گے۔

أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً

.23

بھلا میں پکڑوں اسکے سوا اوروں کو پوجنا؟

إِنْ يُرِدِ اللَّهُ الرِّحْمَانَ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ

کہ اگر مجھ پر چاہے رحمن تکلیف، کچھ کام نہ آئے مجھ کو انکی سفارش، اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں۔

إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

.24

تو تو میں بھٹکار ہوں صریح۔

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ

.25

میں یقین لایا تمہارے رب پر، مجھ سے سن لو۔

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ^ط

حکم ہوا کہ چلا جا بہشت میں۔

قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

بولا کسی طرح میری قوم معلوم کریں۔

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں۔

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ

اور اتاری نہیں ہم نے اسکی قوم پر اس کے پیچھے کوئی فوج آسمان سے، اور ہم اتارا نہیں کرتے۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ

یہی تھی ایک چنگھاڑ، پھر تبھی بوجھ رہے (ہلاک ہوئے)۔

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ^ج

کیا افسوس ہے بندوں پر!

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

کوئی رسول نہیں آیا ان پاس، جس سے ٹھٹھا (مذاق) نہیں کرتے۔

الَّذِينَ يَرَوُكُمُ أَهْلِكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ

کیا نہیں دیکھتے کتنی کھپا (ہلاک کر) چکے ہم ان سے پہلے سنگتیں (قومیں)؟

أَهْمُ إِلَيْهِمْ لَا يَزْجُونَ

کہ وہ ان پاس پھر (لوٹ کر) نہیں آتے۔

وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ

اور ساروں (تمام) میں کوئی نہیں جو اکٹھے نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے۔

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ

اور ایک نشانی ہے ان کو زمین مردہ۔

أُحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يُأْكُلُونَ

اس کو ہم نے جلایا (زندہ کیا) اور نکالا اس میں سے اناج، سو اس میں سے کھاتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

اور بنائے (پیدا کئے) ہم نے اس میں باغ، کھجور کے اور انگور کے،

وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

اور بنائے اس میں بعضے چشمے۔

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ

کہ کھائیں اسکے میوؤں سے، اور وہ بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے۔

أَفَلَا يَشْكُرُونَ

پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا

پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے،

مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں، اور آپ ان میں اور جن چیزوں میں کہ ان کو خبر نہیں۔

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ

اور ایک نشانی ہے ان کو رات،

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ

ادھیڑ (کھینچ) لیتے ہیں ہم اس سے دن، پھر تبھی رہ جاتے ہیں اندھیرے میں۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا^ج

سورج چلا جاتا ہے اپنی ٹھہری راہ (ٹھکانے) پر۔

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

یہ سادھا (نظام) ہے اس زبردست باخبر کا۔

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

اور چاند کو ہم نے بانٹ (مقرر کر) دی ہیں منزلیں، یہاں تک کہ پھر آرہے جیسے ٹھنی پُرانی۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ^ج

نہ سورج کو پہنچے (بس میں ہے) کہ پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات آگے بڑھے دن سے۔

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

اور ہر کوئی ایک گھیرے (مدار) میں پھرتے (گردش کرتے) ہیں۔

وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ

اور ایک نشانی ہے ان کو کہ ہم نے اٹھا (سوار کر) لی ان کی نسل اس بھری کشتی میں۔

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

اور بنا دیئے ہم نے ان کو اس طرح کے جس پر چڑھتے (سوار ہوتے) ہیں۔

وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ

اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو (غرق کر) دیں، پھر کوئی نہ پہنچے انکی فریاد کو اور نہ وہ خلاص کئے (بچائے) جائیں۔

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

مگر ہم اپنی مہر (رحمت) سے، اور کام چلانے کو ایک وقت (خاص) تک۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور جب کہیے ان کو، بچو اپنے سامنے آئے (عذاب) سے، اور اپنے پیچھے چھوڑے سے، شاید تم پر رحم ہو۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے جس کو ٹلا نہیں رہتے (منہ پھیر نہیں لیتے)۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

اور جب کہتے ان کو خرچ کرو (اس میں سے جو) کچھ اللہ کا دیا،

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ

کہتے ہیں منکر ایمان والوں کو، ہم کھلائیں ایسے کو کہ اللہ چاہتا تو اس کو کھلاتا،

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

تم لوگ تو نرے بہک رہے ہو۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

بہی راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی، جو ان کو پکڑے گی، جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

پھر نہ سکیں گے کہ کچھ کہہ مریں (وصیت کریں) اور نہ اپنے گھر کو پھر جائیں (لوٹ سکیں) گے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

اور پھونکا جائے نرسنگا، پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا

.52

کہیں گے اے خرابی (بد بختی) ہماری! کس نے اٹھادیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ (خواب گاہوں) سے۔

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

یہ (تو) وہ ہے جو وعدہ دیا تھا رحمن نے، اور سچ کہا تھا بھیجے ہوؤں (رسولوں) نے۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ

.53

یہی ہوگی ایک چنگھاڑ، پھر تبھی وہ سارے ہمارے پاس پکڑے آئے۔

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

.54

پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر کچھ، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ

.55

تحقیق (بلاشبہ) بہشت کے لوگ آج ایک دھندے (دلچسپی) میں ہیں باتیں کرتے۔

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ

.56

وہ اور انکی عورتیں (بیویاں) سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تکیے لگائے۔

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ

.57

ان کو وہاں ہے میوہ اور ان کو ہے (ملے گی ہر وہ چیز) جو مانگ لیں۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ

.58

سلام بولنا ہے رب مہربان سے۔

وَأَمْتَارُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

.59

اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گنہگارو!

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

.60

میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو؟ اے آدم کی اولاد! کہ نہ پوجو شیطان کو۔

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔

وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

.61

اور یہ کہ پوجو مجھ کو، یہ راہ ہے سیدھی۔

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا

.62

اور وہ بہکالے گیا تم میں سے بہت خلق (مخلوق) کو۔

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

پھر کیا تم کو بوجھ (عقل) نہ تھی؟

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

.63

یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا۔

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

.64

پیٹھو (داخل ہو جاؤ) اس میں آج کے دن بدلہ اپنے کفر کا۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ

آج ہم مہر (نقش) کر دیں گے اُن کے منہ پر،

وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اور بولیں گے ہم سے اُن کے ہاتھ، اور بتائیں گے ان کے پاؤں، جو کچھ وہ کماتے تھے۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ

اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر دوڑیں راہ لینے کو، پھر کہاں سے سوچھے۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

اور اگر ہم چاہیں صورت بدل دیں اُن کی جہاں کی تھاں (اسی جگہ)،

پھر نہ سکیں گے (آگے) چلنا، نہ وہ اُلٹے پھریں۔

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ

اور جس کو ہم الٹا کریں (لمبی عمر دیں)، اوندھا (الٹ) کریں خلقت (ساخت) میں۔

أَفَلَا يَعْقِلُونَ

پھر کیا بوجھ نہیں رکھتے۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

اور ہم نے نہیں سکھایا اسکو شعر کہنا، اور یہ اسکے لائق (شایانِ شان) نہیں،

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

یہ تو نری سمجھوتی (نصیحت) ہے اور قرآن ہے صاف (پڑھا جانے والا)۔

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

تا (کہ) ڈر سنائے اس کو جس میں جان (زندہ) ہو، اور ثابت ہو بات (حجت ہو) منکروں پر۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیئے ان کو (پیدا کئے انکے لئے) اپنے ہاتھوں بنائے سے چوپائے، پھر وہ ان کا مال ہیں۔

وَذَلَّلْنَا هَا هَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

اور عاجز کر دیا ان کو ان کے آگے، پھر ان میں کوئی ہے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں۔

وَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمِنْهَا بَرَكٌ

اور ان کو ان میں فائدے ہیں، اور پینے کے گھاٹ (مشروبات)۔

أَفَلَا يَشْكُرُونَ

پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ

اور پکڑے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کہ شاید ان کو مدد پہنچے۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ

.75

نہ سکیں گے ان کی مدد کرنی اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے۔

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ

.76

اب تو غم نہ کھا ان کی بات سے۔

إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

ہم جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں اور جو کھولتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

.77

کیا دیکھتا نہیں آدمی کہ ہم نے اسکو بنایا ایک بوند سے، پھر تبھی وہ ہو گیا جھگڑتا بولتا۔

وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ

.78

اور بٹھاتا (چسپاں کرتا) ہے ہم پر کہاوت، اور بھول گیا اپنی پیدائش۔

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

کہنے لگا کون جلاوے (زندہ کرے) گا ہڈیاں جب کھوکھری (بوسیدہ) ہو گئیں۔

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

.79

تو کہہ ان کو جلاوے (زندہ کرے) گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

اور وہ سب بنانا جانتا ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ

.80

(وہی) جس نے بنا دی تم کو سبز درخت سے آگ۔ پھر اب تم اسی سے سلگاتے ہو۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ^ج

.81

کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین، نہیں سکتا کہ بنا دے ایسے آدمی؟

بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

کیوں نہیں! اور وہ ہے اصل بنانے والا سب جانتا۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

.82

اس کا حکم یہی ہے، جب چاہے کسی چیز کو، کہ کہے اس کو ہو، وہ ہو جائے۔

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

.83

سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی، اور اسی کی طرف پھر (پلٹ) جاؤ گے۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com